

## ARABIC VERB CONJUGATOR

نَعِمَ  
نَعِمْتًا  
نَعِمْتًا

## Be\_blessed

VERBAL NOUN (MASDAR)

نَعْمَةٌ

نَعْمَتٌ / آسائش

Root: ن ع م

PAST نَعِمَ اس نے نعمت پائی	PRESENT يُنْعِمُ وہ نعمت پاتا ہے	MASDAR نَعْمَةٌ نَعْمَتٌ / آسائش	ISM FA'IL نَاعِمٌ نعمت والا	ISM MAFOOL مُنْعَمٌ جسے نعمت دی گئی
-----------------------------------	--	--	-----------------------------------	---

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	نَعِمَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے نعمت پائی
هُمَا	نَعِمَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے نعمت پائی
هُمْ	نَعِمُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے نعمت پائی
هِيَ	نَعِمَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے نعمت پائی
هُمَا	نَعِمْتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے نعمت پائی
هِنَّ	نَعِمْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے نعمت پائی
أَنْتَ	نَعِمْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے نعمت پائی
أَنْتُمَا	نَعِمْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے نعمت پائی
أَنْتُمْ	نَعِمْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے نعمت پائی
أَنْتِ	نَعِمْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے نعمت پائی
أَنْتُمَا	نَعِمْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے نعمت پائی
أَنْتِنَّ	نَعِمْتِنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے نعمت پائی
أَنَا	نَعِمْتُ	میں	میں نے نعمت پائی
نَحْنُ	نَعِمْنَا	ہم	ہم نے نعمت پائی

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	يُنْعِمُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد نعمت پاتا ہے
هُمَا	يُنْعِمَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد نعمت پاتے ہیں
هُمْ	يُنْعِمُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد نعمت پاتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت نعمت پاتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَعْمُ	هِيَ
وہ دو عورتیں نعمت پاتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَعْمَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں نعمت پاتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَعْمَنَ	هُنَّ
تم ایک مرد نعمت پاتے ہو	تم (ایک مرد)	تَعْمُ	أَنْتَ
تم دونوں نعمت پاتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تَعْمَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد نعمت پاتے ہو	تم (سب مرد)	تَعْمُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت نعمت پاتی ہو	تم (ایک عورت)	تَعْمِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں نعمت پاتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَعْمَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں نعمت پاتی ہو	تم (سب عورتیں)	يَعْمَنَ	أَنْتُنَّ
میں نعمت پاتا/پاتی ہوں	میں	أَنْعَمُ	أَنَا
ہم نعمت پاتے ہیں	ہم	نَعْمُ	نَحْنُ

## IMPERATIVE

## الأمر والنهي

POSITIVE			NEGATIVE		
الضمیر	الفعل	ترجمہ	الضمیر	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	أَنْعَمْ	تم نعمت پاؤ (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تَعْمُ	تم نعمت مت پاؤ (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	أَنْعَمَا	تم دونوں نعمت پاؤ	أَنْتُمَا	لَا تَعْمَا	تم دونوں نعمت مت پاؤ
أَنْتُمْ	أَنْعَمُوا	تم سب نعمت پاؤ (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَعْمُوا	تم سب نعمت مت پاؤ (مذکر جمع)
أَنْتِ	أَنْعِمِي	تم نعمت پاؤ (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَعْمِي	تم نعمت مت پاؤ (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	أَنْعَمَا	تم دونوں نعمت پاؤ (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَعْمَا	تم دونوں نعمت مت پاؤ (مؤنث)
أَنْتُنَّ	أَنْعِمْنَ	تم سب نعمت پاؤ (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا يَنْعَمْنَ	تم سب نعمت مت پاؤ (مؤنث جمع)

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو		وه (ایک مرد)
نِي	نَعِمْنِي	اس نے مجھے نعمت پائی
نَا	نَعِمْنَا	اس نے ہمیں نعمت پائی
كَ	نَعِمَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
كُمَا	نَعِمَكُمَا	اس نے تم دونوں کو نعمت پائی
كُم	نَعِمَكُم	اس نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
كَ	نَعِمَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
كُنَّ	نَعِمَكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ه	نَعِمَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
هُمَا	نَعِمَهُمَا	اس نے ان دونوں کو نعمت پائی
هُمْ	نَعِمَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
هَا	نَعِمَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
هُمَا	نَعِمَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو نعمت پائی
هِنَّ	نَعِمَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

ہما (مذکر)		وه (دو مرد)
نِي	نَعِمَانِي	ان دو مردوں نے مجھے نعمت پائی
نَا	نَعِمَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں نعمت پائی
كَ	نَعِمَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
كُمَا	نَعِمَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو نعمت پائی
كُم	نَعِمَاكُم	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
كَ	نَعِمَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
كُنَّ	نَعِمَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ه	نَعِمَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
هُمَا	نَعِمَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو نعمت پائی
هُمْ	نَعِمَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
هَا	نَعِمَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
هِنَّ	نَعِمَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

ہم	وہ (سب مرد)
نِی	ان سب مردوں نے مجھے نعمت پائی
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں نعمت پائی
ک	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
کَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو نعمت پائی
کُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
کِ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
کِن	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ہ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
ہَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو نعمت پائی
ہُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
ہَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
ہِن	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

ہی	وہ (ایک عورت)
نِی	اس ایک عورت نے مجھے نعمت پائی
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں نعمت پائی
ک	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
کَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو نعمت پائی
کُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
کِ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
کِن	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ہ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
ہَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو نعمت پائی
ہُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
ہَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
ہِن	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	نَعْمَتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے نعمت پائی
نَا	نَعْمَتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں نعمت پائی
ک	نَعْمَتَاكَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
کَا	نَعْمَتَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو نعمت پائی
کُر	نَعْمَتَاکُر	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
کِ	نَعْمَتَاكِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
کُنَّ	نَعْمَتَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ہ	نَعْمَتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
ہمَا	نَعْمَتَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو نعمت پائی
ہم	نَعْمَتَاهُم	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
ہَا	نَعْمَتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
ہنَّ	نَعْمَتَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	نَعْمِنِی	ان سب عورتوں نے مجھے نعمت پائی
نَا	نَعْمِنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں نعمت پائی
ک	نَعْمِنَکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نعمت پائی
کَا	نَعْمِنَاکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو نعمت پائی
کُر	نَعْمِنَاکُر	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نعمت پائی
کِ	نَعْمِنَکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نعمت پائی
کُنَّ	نَعْمِنَاکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نعمت پائی
ہ	نَعْمِنَهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
ہمَا	نَعْمِنَهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو نعمت پائی
ہم	نَعْمِنَهُم	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
ہَا	نَعْمِنَهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
ہنَّ	نَعْمِنَهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ	تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ
تَمَّ (ایک مرد) نے مجھے نعمت پائی	نِي	نِعْمَتِي	تَمَّ دوونوں نے مجھے نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے ہمیں نعمت پائی	نَا	نِعْمَتَنَا	تَمَّ دوونوں نے ہمیں نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی	هُ	نِعْمَتَهُ	تَمَّ دوونوں نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے ان دوونوں کو نعمت پائی	هُمَا	نِعْمَتَهُمَا	تَمَّ دوونوں نے ان دوونوں کو نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی	هُمْ	نِعْمَتَهُمْ	تَمَّ دوونوں نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی	هَا	نِعْمَتَهَا	تَمَّ دوونوں نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
تَمَّ (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی	هِنَّ	نِعْمَتَهُنَّ	تَمَّ دوونوں نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

تَمَّ سَبَّ (مرد)	أَنْتَ	تَمَّ (ایک عورت)	أَنْتِ
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے مجھے نعمت پائی	نِي	نِعْمَتِي	تَمَّ (ایک عورت) نے مجھے نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے ہمیں نعمت پائی	نَا	نِعْمَتَنَا	تَمَّ (ایک عورت) نے ہمیں نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی	هُ	نِعْمَتَهُ	تَمَّ (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے ان دوونوں کو نعمت پائی	هُمَا	نِعْمَتَهُمَا	تَمَّ (ایک عورت) نے ان دوونوں کو نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی	هُمْ	نِعْمَتَهُمْ	تَمَّ (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی	هَا	نِعْمَتَهَا	تَمَّ (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی
تَمَّ سَبَّ (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی	هِنَّ	نِعْمَتَهُنَّ	تَمَّ (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی

انتن	تم سب (عورتیں)	میں	آنا
نِی	نَعْمَتِنِی	تم سب (عورتوں) نے مجھے نعمت پائی	کَ
نَا	نَعْمَتِنَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں نعمت پائی	کَا
ہ	نَعْمَتِہ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) نعمت پائی	کُ
ہمَا	نَعْمَتِہمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو نعمت پائی	کَ
ہم	نَعْمَتِہم	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو نعمت پائی	کُنَّ
ہَا	نَعْمَتِہَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) نعمت پائی	ہ
ہنَّ	نَعْمَتِہنَّ	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو نعمت پائی	ہمَا
			ہم
			ہَا
			ہنَّ

تحن	ہم
کَ	نَعْمَانَاکَ
کَا	نَعْمَانَاکَا
کُ	نَعْمَانَاکُ
کَ	نَعْمَانَاکَ
کُنَّ	نَعْمَانَاکُنَّ
ہ	نَعْمَانَاہُ
ہمَا	نَعْمَانَاہُمَا
ہم	نَعْمَانَاہُم
ہَا	نَعْمَانَاہَا
ہنَّ	نَعْمَانَاہُنَّ

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَنْعَمُنِي	وہ مجھے نعمت پاتا ہے
نَا	يَنْعَمُنَا	وہ ہمیں نعمت پاتا ہے
كَ	يَنْعَمُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتا ہے
كُمَا	يَنْعَمُكُمَا	وہ تم دونوں کو نعمت پاتا ہے
كُم	يَنْعَمُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو نعمت پاتا ہے
كَ	يَنْعَمُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتا ہے
كُنَّ	يَنْعَمُكُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتا ہے
ه	يَنْعَمُهُ	وہ اسے (ایک مرد) نعمت پاتا ہے
هُمَا	يَنْعَمُهُمَا	وہ ان دونوں کو نعمت پاتا ہے
هُمْ	يَنْعَمُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو نعمت پاتا ہے
هَا	يَنْعَمُهَا	وہ اسے (ایک عورت) نعمت پاتا ہے
هُمَا	يَنْعَمُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو نعمت پاتا ہے
هِنَّ	يَنْعَمُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتا ہے
هُمَا (مذکر)		وه (دو مرد)
نِي	يَنْعَمَانِي	وہ دو مرد مجھے نعمت پاتے ہیں
نَا	يَنْعَمَانَا	وہ دو مرد ہمیں نعمت پاتے ہیں
كَ	يَنْعَمَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتے ہیں
كُمَا	يَنْعَمَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو نعمت پاتے ہیں
كُم	يَنْعَمَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہیں
كَ	يَنْعَمَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتے ہیں
كُنَّ	يَنْعَمَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہیں
ه	يَنْعَمَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) نعمت پاتے ہیں
هُمَا	يَنْعَمَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو نعمت پاتے ہیں
هُمْ	يَنْعَمَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہیں
هَا	يَنْعَمَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) نعمت پاتے ہیں
هِنَّ	يَنْعَمَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہیں



ہما (مؤنث)	وہ (دو عورتیں)	
نِی	تَعْمَانِی	وہ دو عورتیں مجھے نعمت پاتی ہیں
نَا	تَعْمَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں نعمت پاتی ہیں
کَک	تَعْمَاکَک	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتی ہیں
کَاکَا	تَعْمَاکَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو نعمت پاتی ہیں
کُرُکُر	تَعْمَاکُرُکُر	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہیں
کَک	تَعْمَاکَک	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتی ہیں
کُنَّکُن	تَعْمَاکُنَّکُن	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہیں
ہُہ	تَعْمَاہُہ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) نعمت پاتی ہیں
ہَمَاہَمَا	تَعْمَاہَمَاہَمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو نعمت پاتی ہیں
ہُمَّہُمَّ	تَعْمَاہُمَّہُمَّ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہیں
ہَاہَا	تَعْمَاہَاہَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) نعمت پاتی ہیں
ہَنَّہَنَّ	تَعْمَاہَنَّہَنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہیں

ہن	وہ (سب عورتیں)	
نِی	یَنْعَمْنِی	وہ سب عورتیں مجھے نعمت پاتی ہیں
نَا	یَنْعَمْنَا	وہ سب عورتیں ہمیں نعمت پاتی ہیں
کَک	یَنْعَمْنَاکَک	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتی ہیں
کَاکَا	یَنْعَمْنَاکَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو نعمت پاتی ہیں
کُرُکُر	یَنْعَمْنَاکُرُکُر	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہیں
کَک	یَنْعَمْنَاکَک	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتی ہیں
کُنَّکُن	یَنْعَمْنَاکُنَّکُن	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہیں
ہُہ	یَنْعَمْنَاہُہ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) نعمت پاتی ہیں
ہَمَاہَمَا	یَنْعَمْنَاہَمَاہَمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو نعمت پاتی ہیں
ہُمَّہُمَّ	یَنْعَمْنَاہُمَّہُمَّ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہیں
ہَاہَا	یَنْعَمْنَاہَاہَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) نعمت پاتی ہیں
ہَنَّہَنَّ	یَنْعَمْنَاہَنَّہَنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہیں

تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ	تَمَّ دُونُوں (مرد/ عورت)	أَنْتُمَا
تَمَّ (ایک مرد) مجھے نعمت پاتے ہو	نِي تَعْمِنِي	تَمَّ دُونُوں مجھے نعمت پاتے ہو	نِي تَعْمَانِي
تَمَّ (ایک مرد) ہمیں نعمت پاتے ہو	نَا تَعْمِنَا	تَمَّ دُونُوں ہمیں نعمت پاتے ہو	نَا تَعْمَانَا
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) نعمت پاتے ہو	هُ تَعْمَهُ	تَمَّ دُونُوں اسے (ایک مرد) نعمت پاتے ہو	هُ تَعْمَاهُ
تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو نعمت پاتے ہو	هُمَا تَعْمَهُمَا	تَمَّ دُونُوں ان دونوں کو نعمت پاتے ہو	هُمَا تَعْمَاهُمَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہو	هُمْ تَعْمَهُمْ	تَمَّ دُونُوں ان سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہو	هُمْ تَعْمَاهُمْ
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) نعمت پاتے ہو	هَا تَعْمَهَا	تَمَّ دُونُوں اسے (ایک عورت) نعمت پاتے ہو	هَا تَعْمَاهَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہو	هِنَّ تَعْمَهُنَّ	تَمَّ دُونُوں ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہو	هِنَّ تَعْمَاهُنَّ

تَمَّ سب (مرد)	أَنْتُمْ	تَمَّ (ایک عورت)	أَنْتِ
تَمَّ سب (مرد) مجھے نعمت پاتے ہو	نِي تَعْمُونِي	تَمَّ (ایک عورت) مجھے نعمت پاتی ہو	نِي تَعْمِينِي
تَمَّ سب (مرد) ہمیں نعمت پاتے ہو	نَا تَعْمُونَا	تَمَّ (ایک عورت) ہمیں نعمت پاتی ہو	نَا تَعْمِينَا
تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک مرد) نعمت پاتے ہو	هُ تَعْمُوهُ	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) نعمت پاتی ہو	هُ تَعْمِيهِ
تَمَّ سب (مرد) ان دونوں کو نعمت پاتے ہو	هُمَا تَعْمُوهُمَا	تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو نعمت پاتی ہو	هُمَا تَعْمِيهُمَا
تَمَّ سب (مرد) ان سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہو	هُمْ تَعْمُوهُمْ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہو	هُمْ تَعْمِيهِمْ
تَمَّ سب (مرد) اسے (ایک عورت) نعمت پاتے ہو	هَا تَعْمُوَهَا	تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) نعمت پاتی ہو	هَا تَعْمِيَهَا
تَمَّ سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہو	هِنَّ تَعْمُوَهُنَّ	تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہو	هِنَّ تَعْمِيَهُنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تم سب (عورتیں) مجھے نعمت پاتی ہو
نَا	تم سب (عورتیں) ہمیں نعمت پاتی ہو
هُ	تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) نعمت پاتی ہو
هُمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کو نعمت پاتی ہو
هُمْ	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو نعمت پاتی ہو
هَا	تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) نعمت پاتی ہو
هِنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتی ہو

اننا	میں
كَ	میں تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتا/پاتی ہوں
كُنَا	میں تم دونوں کو نعمت پاتا/پاتی ہوں
كُمُ	میں تم سب (مردوں) کو نعمت پاتا/پاتی ہوں
كَ	میں تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتا/پاتی ہوں
كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتا/پاتی ہوں
هُ	میں اسے (ایک مرد) نعمت پاتا/پاتی ہوں
هُمَا	میں ان دونوں کو نعمت پاتا/پاتی ہوں
هُمْ	میں ان سب (مردوں) کو نعمت پاتا/پاتی ہوں
هَا	میں اسے (ایک عورت) نعمت پاتا/پاتی ہوں
هِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتا/پاتی ہوں

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم تمہیں (ایک مرد) نعمت پاتے ہیں
كُنَا	ہم تم دونوں کو نعمت پاتے ہیں
كُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہیں
كَ	ہم تمہیں (ایک عورت) نعمت پاتے ہیں
كُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہیں
هُ	ہم اسے (ایک مرد) نعمت پاتے ہیں
هُمَا	ہم ان دونوں کو نعمت پاتے ہیں
هُمْ	ہم ان سب (مردوں) کو نعمت پاتے ہیں
هَا	ہم اسے (ایک عورت) نعمت پاتے ہیں
هِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو نعمت پاتے ہیں

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا نَعِمْتُ بِرِضَا اللَّهِ وَحُسْنِ الْعِبَادَةِ.  
میں نے اللہ کی رضا اور حسن عبادت کی نعمت پائی۔

I was blessed with Allah's pleasure and good worship.

We

نَحْنُ نَعْمَانَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْهُدَايَةِ.  
ہم نے اسلام اور ہدایت کی نعمت پائی۔

We were blessed with the bounty of Islam and guidance.

You (m)

أَنْتَ نَعِمْتَ بِأَهْلِ صَالِحِينَ وَوَلَدٍ بَارٍّ.  
تم نے نیک اہل خانہ اور فرمانبردار اولاد کی نعمت پائی۔

You were blessed with righteous family and obedient children.

You (f)

أَنْتِ نَعِمْتِ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ فِي صَدْرِكَ.  
تم نے اپنے سینے میں قرآن حفظ کرنے کی نعمت پائی۔

You were blessed with memorizing the Quran in your heart.

He

هُوَ نَعِمَ بِالْأَمْنِ وَالْعَافِيَةِ فِي بَلَدِهِ.  
اس نے اپنے ملک میں امن اور عافیت کی نعمت پائی۔

He was blessed with security and well-being in his country.

She

هِيَ نَعِمَتْ بِزَوْجٍ صَالِحٍ يُعِينُهَا عَلَى الطَّاعَةِ.  
اس نے نیک شوہر کی نعمت پائی جو اطاعت میں اس کی مدد کرتا ہے۔

She was blessed with a righteous husband who helps her in obedience.

They two

هُمَا نَعِمَا بِصُحْبَةِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ.  
ان دونوں نے علماء اور نیک لوگوں کی صحبت کی نعمت پائی۔

They both were blessed with the company of scholars and righteous people.

They (m)

هُمْ نَعِمُوا بِنِعْمِ اللَّهِ فَشَكَرُوهُ عَلَيْهَا.  
انہوں نے اللہ کی نعمتیں پائیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کیا۔

They were blessed with Allah's bounties and thanked Him for them.

You all (m)

أَنْتُمْ نَعِمْتُمْ بِنِعْمَةِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ.  
تم نے علم اور فہم کی نعمت پائی۔

You all were blessed with the bounty of knowledge and understanding.

They (f)

هُنَّ نَعِمْنَ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ طُولَ حَيَاتِهِنَّ.  
انہوں نے ساری زندگی صحت اور عافیت کی نعمت پائی۔

They were blessed with health and well-being throughout their lives.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

## مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَنْعَمُ بِحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ بِفَضْلِ اللَّهِ.  
میں اللہ کے فضل سے پاکیزہ زندگی کی نعمت پاتا ہوں۔

I am blessed with a good life by the grace of Allah.

We

نَحْنُ نَعْمُ بِنِعْمَةِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ.  
ہم ہر روز قرآن کی نعمت پاتے ہیں۔

We are blessed with the bounty of the Quran every day.

You (m)

أَنْتَ تَنْعَمُ بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ الَّتِي لَا تُقَدَّرُ بِثَمَنٍ.  
تم ایمان کی اس نعمت سے سرفراز ہو جو بے قیمت ہے۔

You are blessed with the bounty of faith which is priceless.

You (f)

أَنْتِ تَنْعَمِينَ بِبَيْتٍ مُبَارَكٍ مَلِيٍّ بِالذِّكْرِ.  
تم ذکر سے بھرے مبارک گھر کی نعمت پاتی ہو۔

You are blessed with a blessed home filled with remembrance.

He

هُوَ يَنْعَمُ بِالْمُؤْمِنِ بِقُرْبِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ.  
مومن نماز میں اللہ کے قرب کی نعمت پاتا ہے۔

The believer is blessed with the nearness of Allah in prayer.

She

هِيَ تَنْعَمُ بِرَاحَةِ الْبَالِ لِأَنَّهَا تَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ.  
وہ ذہنی سکون کی نعمت پاتی ہے کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتی ہے۔

She is blessed with peace of mind because she trusts in Allah.

They two

هُمَا يَنْعَمَانِ بِحُبِّ الْعِلْمِ وَطَلْبِهِ.  
وہ دونوں علم کی محبت اور طلب کی نعمت پاتے ہیں۔

They both are blessed with the love and pursuit of knowledge.

They (m)

هُمْ يَنْعَمُونَ بِالْأَمْنِ فِي ظِلِّ شَرِيعَةِ اللَّهِ.  
وہ اللہ کی شریعت کے سائے میں امن کی نعمت پاتے ہیں۔

They are blessed with security under the shade of Allah's law.

You all (m)

أَنْتُمْ تَنْعَمُونَ بِصُحْبَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ.  
تم نیک لوگوں کی صحبت کی نعمت پاتے ہو۔

You all are blessed with the company of good people.

They (f)

هُنَّ يَنْعَمْنَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرَكَاتِهِ فِي بَيْوتِهِنَّ.  
وہ اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکات کی نعمت پاتی ہیں۔

They are blessed with Allah's mercy and blessings in their homes.

## VOCABULARY

## المفردات

النَّعْمَةُ  
نعمت

blessing / bounty

النَّعِيمُ  
آسائش / نعمت

comfort / bliss

الْمَنْعَمُ  
نعمت دینے والا

the Bestower (of blessings)

الْعَافِيَةُ  
عافیت

well-being

الْأَمْنُ  
امن

security / safety

الْهُدَايَةُ  
ہدایت

guidance

الْفَضْلُ  
فضل

grace / favor

الشَّرِيعَةُ  
شریعت

divine law

التَّوَكُّلُ  
توکل

reliance on Allah

رَاحَةُ الْبَالِ  
ذہنی سکون

peace of mind

الصِّحَّةُ  
صحت

health

الْحِفْظُ  
حفظ / یاد

memorization

الْبَرَكَاتُ  
برکات

blessings

الصُّحْبَةُ  
صحبت

companionship

الْإِيْمَانُ  
ایمان

faith